

1 مارچ 2019

برامپٹن سمارٹ سٹیز ٹیکنالوجیز کی بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کر رہا ہے

یہ تقریب ایک ایسے وقت پر منعقد کی جا رہی ہے، جب سٹی کینیڈا میں ٹیکنالوجی اور جدت کا مرکز بننے کے لیے اپنی رفتار کو تیز کر رہا ہے۔

برامپٹن، آن (1 مارچ 2019) – منگل کے روز، 26 فروری 2019 کو برامپٹن میں سمارٹ سٹیز ٹیکنالوجیز سمٹ کے موقع پر بین الاقوامی ماہرین کا کہنا تھا کہ جبکہ پوری دنیا میں شہروں کو سماجی، معاشی اور ماحولیاتی محاذوں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل استحکام شہری ترقی کو یقینی بنانے کے لیے جدت پسند ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں اور کاروباروں، یونیورسٹیوں اور کمیونٹیوں کے ساتھ باہمی تعاون کریں۔

اس تقریب، جس کی میزبانی سٹی آف برامپٹن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسوسی ایشن آف کینیڈا (ITAC) مشترکہ طور پر کر رہے ہیں، پورے کینیڈا اور یہاں تک کہ یورپ کی میونسپلٹیوں، ٹیکنالوجی کمپنیوں اور یونیورسٹیوں سے ماہرین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں ہونے والے بحث و مباحثے انسانی حرکت پذیری، ڈیٹا کی پرائیویسی اور سیکورٹی، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن نیٹ ورکس، سٹی کی خدمات کو جدید بنانے اور شہری جدت پر مرکوز تھے۔

یہ سمٹ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے منعقد کروائی گئی کہ پوری دنیا میں شہروں کی آبادیاں کیسے تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق حالیہ 55 فیصد کے مقابلے 2050 تک دنیا کی 68 فیصد آبادی شہروں میں آباد ہو گی۔ اس اضافے سے پرانے ہوتے ہوئے شہری انفراسٹرکچر پر شدید دباؤ پڑ سکتا ہے اور شہروں میں خوراک، پانی، توانائی، نگہداشت صحت، نقل و حمل اور سیکورٹی کی طلب میں بے مثال اضافہ ہو سکتا ہے۔

نمائندہ ارکان نے اس نظریے کے خلاف بھی تنبیہ کی کہ ٹیکنالوجی ہر شہری مسئلے کے لیے "منتہائے مقصود" ہے۔ سمارٹ سٹی کے منصوبہ کاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کئی مختلف اقسام کے تخلیقی حل متعارف کرائیں، جو محض ٹیکنالوجی سے بڑھ کر ہوں، مثلاً کمیونٹی کی مشمول شرکت اور تعلیمی اور کاروباری شعبوں کے ساتھ اشتراک۔

یہ تقریب ایک ایسے وقت پر منعقد کی جا رہی ہے، جب برامپٹن کئی ایسے پراجیکٹس کے آگے بڑھا رہا ہے، جو جدت، ٹیکنالوجی اور ملازمتوں کی تخلیق کو فروغ دیتے ہیں۔

ان پراجیکٹس میں ریٹرنس یونیورسٹی کے ساتھ شراکت میں سائبر سیکیور کیٹالسٹ، اس بڑھتے ہوئے شعبے میں تربیت اور سرٹیفیکیشن، تحقیق و ترقی اور کاروباری جدت کو فروغ دینے کے لیے سائبر سیکورٹی کے ایک قومی مرکز کا آغاز کرنا شامل ہے۔

سٹی ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ایک انکیوبیٹر والی جگہ شروع کرنے کے لیے بھی ریٹرنس کے ساتھ اشتراک کر رہا ہے، جسے ابھرتے ہوئے اسٹارٹ اپس اور قائم شدہ کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

اقتباسات

"برامپٹن – کینیڈا کے دوسرے تیز ترین بڑھوتری والے اور نوجوان ترین شہر – کے لیے یہ موزوں تھا کہ یہ ITAC کے ساتھ مل کر اس سمٹ کی مشترکہ میزبانی کرے۔ یہ تقریب ایک ایسے وقت پر منعقد ہو رہی ہے جب برامپٹن میں زبردست پیش رفت ہو رہی ہے، جو کینیڈا کے سب سے تیزی سے ابھرتے ہوئے ٹیکنالوجی اور جدت کے مرکز کے طور پر برامپٹن کے دعوے کو مزید تقویت بخشتی ہے۔ ہمارے شہر کے پاس، دنیا کی سمارٹ ترین شہری جگہوں میں سے ایک بننے کے لیے ضروری عنصر موجود ہے، یعنی ملازمتوں کی تخلیق۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"برامپٹن میں اس سمٹ کی مشترکہ میزبانی کرنا کینیڈا کے ٹیکنالوجی اور جدت کے منظر نامے پر برامپٹن کے بڑھتے ہوئے اثر کی واضح نشاندہی ہے۔ برامپٹن ٹورانٹو واٹر لوو انوویشن کوریڈور کے مرکز میں ہے، جو ٹیلنٹ، معلمین، انٹرپرائیونرز اور تیزی سے بڑھنے والی فرموں کو باہم منسلک کرتا ہے۔ G7 میں کسی بھی ٹیکنالوجی ہب کے سب سے کم کاورباری اخراجات – اور چوٹی کی بین الاقوامی فرموں سے اپنی قربت – کی وجہ سے برامپٹن اسمارٹ سٹی کے تصورات کو استعمال کرنے اور نتیجتاً ایک شہری ماحول کے معیار کو بہتر بنا کر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اچھے مقام پر موجود ہے۔"

- جوزف پیٹری، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca